

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ط  
تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (نحل: ۴۳)

# فتاویٰ خیرہ

حضرت شاہ ابو الخیر عبداللہ محی الدین فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

ادارہ سعودیہ

۵۰۶/۲۔ ای، ناظم آباد، کراچی، سندھ اسلامی جمہوریہ پاکستان

فَسَّكُنُوا أَهْلًا لِّذِكْرِكُمْ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
تو لے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (نحل: ۲۳)

# فتاویٰ خیریہ

حضرت شاہ ابو الخیر عبداللہ محی الدین افاروقی مجددیؒ

تحقیق و تصحیح

صاحبزادہ قاضی حافظ محمد عبدالسلام نقشبندی مجددی

تقدیم

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

ادارۃ مستویہ

۶۱۲، ۵-ای، ناظم آباد، کراچی سندھ اسلامی جمہوریہ پاکستان

۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۸ء



شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کو حضور انور ﷺ سے کمال عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ۱۲، ربیع الاول کی شب کو نہایت تزک و احتشام سے یوم میلاد النبی ﷺ مناتے تھے، محفل سجاتے، فضائل و شمائل بیان فرماتے، منوں مٹھائی تقسیم کرتے اور کھانا کھلاتے۔۔۔۔۔ راقم کے والد ماجد مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ (م)، ۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۶ء، شاہی امام و خطیب مسجد جامع قچپوری، دہلی بھی اس رات محفل منعقد فرماتے جو نمازِ عشاء کے بعد شروع ہو کر نمازِ فجر سے پہلے ختم ہوتی، منوں مٹھائی تقسیم ہوتی اور کھانا کھلایا جاتا۔۔۔۔۔ حضور انور ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا صلحاء امت کی سنت ہے اس کو منع نہ کرے گا مگر بد حال و بد کار۔۔۔۔۔

شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ تحریک خلافت (۱۹۱۹ء) میں تو شریک تھے مگر تحریک ترکِ موالات (۱۹۲۰ء) میں شریک نہ تھے، جذبات کا زمانہ تھا، شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کی مٹھل میلاد النبی ﷺ بھی تھی کسی مفسد نے آکر دھمکی دی کہ تحریک میں شریک ہو ورنہ جھاڑ فانوس سب توڑ دیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ اس تحریک میں مفسدین اور بد عقیدہ اندرونِ خانہ کام کر رہے تھے، بہر حال حکیم اجمل خان (م)، ۱۳۴۶ھ / ۱۹۲۷ء اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری (م)، ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء نے شاہ صاحب سے آکر معذرت کی۔



شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے جلیل القدر عرب و عجم کے اساتذہ سے علوم نقلیہ و عقلیہ حاصل کیے مثلاً سید احمد دحلان مکی (م)، ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱ء۔ مولانا حبیب اللہ کیرانوی مہاجر مکی (م)، ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۱ء، شاہ عبدالغنی مہاجر مدنی (م)، ۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۸ء، شاہ محمد مظہر اور مولانا حبیب الرحمن رودلوی

وغیرہ۔۔۔۔۔ شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے کاملانِ وقت سے تحصیل علم فرمائی اس لئے آپ کا علمی پایہ بہت بلند تھا جس کا کچھ اندازہ ”فتاویٰ خیر یہ“ سے بھی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ آپ صاحبِ فتویٰ بھی تھے اور صاحبِ تقویٰ بھی۔۔۔۔۔ فتویٰ اور تقویٰ کا ایک جا ہونا فی زمانہ ہذا نوادر میں سے ہے۔۔۔ آپ قبحِ سنت تھے، اتباعِ سنت سے حواس کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ دلوں کے احوال جان لیا کرتے تھے، دل مولیٰ کی طرف ہو تو آئینہ بن جاتا ہے، دنیا کی طرف ہو تو زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ مجاہد اکبر تھے کہ نفس پر قابو تھا، بد خواہی کا صلہ خیر خواہی سے دیتے تھے۔ ایک عزیز جو سرکاری افسر تھے اندرونی احوال کی جانچ پڑتال کے لئے بغیر اطلاع اپنے ساتھ ایک سی۔ آئی۔ ڈی کے برطانوی افسر کو لے آئے جس کا علم اندر آکر ہو اس کے نتیجے میں شاہ صاحب کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں مگر شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے یہ قصور در گزر فرمایا ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹ء میں غالباً اس کے پہلے فرزند کی شادی تھی شاہ صاحب تینوں صاحب زادگان کے ساتھ شادی میں شریک ہوئے۔۔۔۔۔ شاہ صاحب اس رباعی کے مصداق تھے :-

سرمد گلہ اختصار می باید کرد + یک کار ازیں دو کار باید کرد

یا تن برضائے دوست می باید داد + یا قطع نظر یاری باید کرد

دہلی کے اطباء کا ملین میں حکیم محمود احمد خان فرماتے تھے :-

اگر صحابہ کے احوال کو دیکھنا ہے تو خانقاہ شریف میں جا کر دیکھو۔

(مقاماتِ خیر، ص ۲۲۰)

حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ حضرات علمائے کبار اور مشائخِ عظام کی

خدمت میں خود بھی حاضر ہوتے اور وہ بھی تشریف لاتے تھے، چنانچہ فقیر کے جد امجد

فقہ الہند شاہ محمد مسعود محدثِ دہلوی (م، ۱۳۱۹ھ / ۱۸۹۲ء) کی خدمت میں جب سفرِ حجاز مقدس کے لئے روانہ ہوتے، حاضر ہوتے تھے۔ (۱) آپ کے خلیفہ شاہ رکن دین الوری علیہ الرحمہ (م، ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء) شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض پاتے۔۔۔۔۔ دہلی کے ایک اور بزرگ اخوند جی شاہ محمد عمر علیہ الرحمہ (م، ۱۳۳۶ھ / ۱۹۱۷ء) کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے، ۱۲ ربیع الاول کی شب جب ان کا وصال ہوا آپ مسند پر بیٹھے مہل میلاد النبی ﷺ میں خطاب فرما رہے تھے، اچانک خاموش ہو گئے، شمال کی طرف آسمان کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا:-

”دیکھو کس کی روح جا رہی ہے“

(مقاماتِ خیر، ص ۲۸۸)

تھوڑی دیر بعد اخوند جی شاہ محمد عمر علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر ملی ان کا دولت کدہ خانقاہ شریف سے شمال کی طرف تھا، اور شاہ صاحب نے شمال ہی کی طرف روح کو پرواز کرتے ملاحظہ فرمایا۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔ انبالہ (مشرقی پنجاب، بھارت) میں اور ایک بزرگ سائیں توکل شاہ نقشبندی مجددیؒ سے بھی شاہ صاحب نے انبالہ جا کر ملاقات فرمائی۔۔۔۔۔ میاں شیر محمد نقشبندی مجددی شرقپوری مکان شریفی (م، ۱۳۴۷ھ / ۱۹۲۸ء) شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کو ”شیر پنجاب“ فرماتے تھے۔۔۔۔۔ دہلی ایک بزرگ پیر جی عبدالصمد چشتی علیہ الرحمہ (م ۱۳۵۹ھ / ۱۹۴۰ء) کو شاہ صاحب سے بڑی عقیدت و محبت تھی، آپ ان

(۱) حضرت فقہ الہند سے حضرت شاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ (م ۱۳۱۹ھ /

۱۸۹۲ء) نے بھی فیض پایا تھا۔

کے والد شاہ عبدالسلام علیہ الرحمہ (م، ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۶ء) کے عرس میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے، فقیر کے والد ماجد علیہ الرحمہ سے بھی پیر جی عبدالصمد علیہ الرحمہ کو بڑی عقیدت تھی، حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ آپ کے والد ماجد علیہ الرحمہ کے عرس میں شریک ہوتے، فقیر بھی ساتھ ہوتا۔ کبھی کبھی وہ خود تشریف لاتے، کبھی دعوتوں میں ملاقات ہو جاتی۔۔۔۔۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ الرحمہ (م، ۱۳۵۰ء / ۱۹۵۱ء) بھی حاضر ہوتے تھے، آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت سید محمد حسین علیہ الرحمہ کو تبرکاً شاہ صاحب سے بیعت بھی کرایا تھا۔۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ، فقیر کے والد ماجد سے بھی عقیدت و محبت رکھتے تھے اور تشریف لاتے تھے۔

فقیر کے والد ماجد حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کے منظور نظر تھے کیونکہ آپ فقیہ الہند شاہ محمد مسعود علیہ الرحمہ کے پوتے تھے جن سے شاہ صاحب کو کمال عقیدت و محبت تھی۔ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے ذخیرہ فتاویٰ میں شاہ صاحب کے فتوؤں کا دستیاب ہونا ایک طرف فتاویٰ خیرہ کی اہمیت کی نشان دہی کرتا ہے اور دوسری طرف ان حضرات کے مابین کمال تعلق و محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ عصر کے وقت تفریح کے لئے شہر سے دور تنہائیوں میں روشن آرباغ تشریف لے جاتے، آپ کی سواری مسجد فتحپوری سے گزرتی ہوئی جاتی، حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ بھی ساتھ تشریف لے جاتے، روزانہ کی اس رفاقت سے حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے قلب پر بجائے اپنے شیخ طریقت حضرت سید محمد صادق علی شاہ علیہ الرحمہ (م، ۱۳۱۶ھ / ۱۸۹۹ء) کے شاہ صاحب کا تصور غالب ہو گیا ایک

دن آپ نے فرمایا:-

”مولوی مظہر تم مانو نہ مانو ہم تمہارے پیر ہو گئے“

(مقاماتِ خیر، ص ۷۰)

اس ارشاد گرامی سے کمال محبت اور الفت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (۱)

الحمد للہ حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کے خاندان سے اس مخلصانہ تعلق کو ایک صدی گزر چکی ہے شاہ صاحب کے فرزند ان گرامی، محقق عصر علامہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی اور علامہ ابو سعید سالم فاروقی مجددی فقیر سے بہت ہی محبت فرماتے تھے، فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ بھی غریب خانے پر کرم فرماتے۔ اب ان کے صاحبزادگان حضرت ابو النصر فاروقی مجددی (ابن الامن ابو الحسن زید فاروقی مجددی) سجادہ نشین خانقاہ مظہریہ، دہلی اور حضرت ابو حفص محمد عمر فاروقی مجددی (ابن حضرت ابو سعید سالم فاروقی مجددی) سجادہ نشین خانقاہ شاہ ابو الخیر، کوئٹہ (بلوچستان) اور ان کے برادران سلمہم الرحمن فقیر سے محبت فرماتے ہیں اور کرم فرماتے رہتے ہیں۔ مولیٰ تعالیٰ دونوں خانقاہوں کو آباد رکھے اور علمی و روحانی فیض جاری رہے۔ امین! الحمد للہ خانقاہ مظہریہ دہلی میں شاہ ابو الخیر اکیڈمی قائم ہے جو مدت سے اپنے اشاعتی پروگرام سے دین و مسلک کی خدمت کر رہی ہے بہت سی مفید اور اہم

(۱) حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ڈاکٹر محمد سعید احمد علیہ الرحمہ (م، ۱۳۱۶ھ / ۱۹۹۶ء) جو درگاہ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ (م، ۱۰۱۲ھ / ۱۶۰۳ء) دہلی کے سجادہ نشین تھے حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کے منجملے صاحبزادے حضرت ابو الحسن زید فاروقی مجددی سے بیعت ہوئے اور روحانی فیض پایا اجازت و خلافت راقم سببہ کار سے حاصل کی۔

کتابیں شائع کی ہیں۔ اس طرح اس خانقاہ شریف میں روحانی اور علمی فیوض جاری و ساری ہیں۔۔۔۔۔



حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کے پاس شاہانِ وقت بھی آتے تھے، ”بے شک اچھا ہے وہ فقیر جس کے دروازے پر شاہانِ وقت آئیں“ اقبال نے سچ کہا۔  
 دربارِ شہنشی سے خوش تر  
 مردانِ خدا کا آستانہ

۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۳ء میں ریاست حیدرآباد دکن کے نواب میر محبوب علی خان مرحوم حاضر ہوئے، ملاقات کی، ایک لاکھ روپے کی اشرفیاں پیش کیں، قبول نہ فرمائیں۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو  
عجب چیز ہے لذتِ آشنائی  
 شاہِ افغانستان امیر حبیب اللہ مرحوم وائسرائے ہند کی دعوت پر دہلی آئے، حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ فرمایا:-  
 امیر صاحب کو ہمارا سلام کہہ دو اور ہماری طرف سے یہ بات کہہ دینا:-  
 ”غرض و غایت آمد شہبہ دہلی ملاقات فقیر نہ بود لہذا برائے کارے کہ آمدہ اند آں رلبا تمام  
 رسانند فقیر برائے ایساں دعائے خیر می کند“


(مقاماتِ خیر، ص ۲۳۱)

اللہ اکبر!



غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگ و دو میں  
پہناتی ہے درویش کو تاجِ سردار

شاہ افغانستان میر امان اللہ خان مرحوم نے دعوت دی، کیسی خلوص کی  
دعوت تھی کہ حضرت شاہ صاحب نے قبول فرمائی، اپریل ۱۹۲۳ء میں افغانستان  
روانہ ہونا تھا مگر اس سے دو ماہ قبل ہی آپ انتقال فرما گئے۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔



حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے ملکی سیاست میں حصہ نہیں لیا البتہ ایسا  
معلوم ہوتا ہے کہ تحریکِ خلافت (۱۹۱۹ء) میں چند ماہ آپ شریک رہے اور تحریک  
ترکِ موالات (۱۹۲۰ء) شروع ہوتے ہی اس سے علیحدہ ہو گئے، فقیر کے والد ماجد  
مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ بھی چند ماہ تک تحریکِ خلافت میں شریک  
رہے پھر علیحدہ ہو گئے۔ تحریکِ خلافت بظاہر مذہبی تحریک معلوم ہوتی ہے لیکن جن  
حضرات کی تاریخِ پاک و ہند پر گہری نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تحریک خالص سیاسی  
تھی جس کا اندازہ تحریکِ خلافت کے فوراً بعد تحریکِ ترکِ موالات اور تحریکِ  
شدھی سنگٹھن سے بھی ہو سکتا ہے اس تحریک کے نتیجہ میں تحریک کے فنڈ اور  
افراد کی قوت کانگریس کے پاس چلی گئی اس لئے جن متدین علماء کو اس تحریک کے  
محرکات کا علم ہو گیا وہ فوراً اس سے علیحدہ ہو گئے، ان میں حضرت شاہ ابو الخیر علیہ  
الرحمہ اور مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ بھی تھے۔۔۔۔۔ حضرت شاہ ابو  
الخیر علیہ الرحمہ کو رام پور میں نظر بندی کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں اس طرح  
سنت یوسفی پوری ہوئی، ستمبر ۱۹۲۴ء میں اعلانِ آزادی کے بعد جب کہ دہلی میں  
کشت و خون کا بازار گرم تھا، حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ تقریباً دو تین ماہ اسی مسجد

جامع فقہوری، دہلی میں اس آزمائش سے گزرے، یہ فقیر بھی حاضر خدمت تھا، الحمد للہ سنتِ یوسفی پوری ہوئی۔۔۔

تحریکِ خلافت کے رہنما مولانا محمد علی جوہر (م، ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۰ء)  
 اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی (م، ۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ء) حضرت شاہ ابو الخیر  
 علیہ الرحمہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے، ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰ء کا واقعہ ہے دہلی  
 کے بازار لال کنوئیں سے حضرت شاہ صاحب کی سواری گزر رہی تھی اور مولانا محمد علی  
 جوہر ایک جلسے سے خطاب فرما رہے تھے (جو ان کی رہائی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا  
 تھا) شاہ صاحب کو دیکھتے ہی اسٹیج سے اترے اور دست بوسی کر کے واپس لوٹ  
 گئے۔۔۔۔۔ زمانہ اسیری میں آپ کی والدہ ملی اماں، مولانا محمد علی جوہر کی بیمار اہلیہ کی  
 دعائے صحت کے لئے حاضر ہوتی تھیں۔۔۔۔۔ دونوں برادران حضرت والد ماجد مفتی  
 اعظم علیہ الرحمہ سے بھی عقیدت رکھتے تھے بلکہ مولانا شوکت علی علیہ الرحمہ کی  
 تجہیز و تکفین حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی نگرانی میں انجام پائی۔۔۔



حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے آخری زمانے میں گوشہ نشینی اور خلوت  
 گزینی اختیار کر لی تھی، اس کی وجہ اللہ کی مخلوق سے بیزاری نہیں تھی کہ یہ سنت کے  
 خلاف ہے بلکہ وجہ یہ تھی :-

”طالبِ خدا نیست الا ماشاء اللہ“

(مقاماتِ خیر، ص ۲۱۷)

فرمایا لوگ خدا کے طالب نہیں دنیا کے طالب ہیں الا ماشاء اللہ، خدا کی راہ  
 دکھانے والے کے پاس دنیا کی راہ پوچھنے کے لئے کوئی آئے تو وحشت نہ ہوگی؟

تریق پھنپنے والے کے پاس زہر لینے آئے تو اس کو دھتکارا نہ جائے گا؟۔۔۔

لو لگی ہوئی تھی، دل اس کی طرف متوجہ تھا جس کی طرف تریاق واکسیر کا حکم رکھتی ہے، وصال کی گھڑی جس کا پیتا پی سے انتظار تھا، آگئی اور ہاتھ غیبی نے صدا دی :-

﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۖ ﴾ (سورہ فجر، ۲۷، ۳۰)

(ترجمہ: اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی

اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ!

دل تو جاتا ہے اس کے کوچے میں جامری جاں، جا، خدا حافظ!

حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا وصال ۲۹، جمادی الاخریٰ مطابق ۱۶،

فروری ۱۹۲۳ء شب جمعۃ المبارک، رات ۲ بجکر پانچ منٹ پر ہوا۔ انا للہ وانا الیہ

راجعون (عجب اتفاق ہے کہ آج ۱۶، فروری ۱۹۹۹ء ہے جبکہ فقیر یہ سطور لکھ رہا ہے)

سے آئے بھی اور گئے دل بھی وہ لے کر غمگین

ہائے کیا کیا نہ ہوا ہم کو خبر ہونے تک

عالم برحق کا اٹھ جانا، عالم کا اٹھ جانا ہے کہ وہ شیرازہ بند کائنات ہے۔۔۔

الحمد للہ آپ کے صاحبزادگان نے آپ کے بعد رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری

رکھا، دہلی (ہندوستان) میں بھی اور کوئٹہ (پاکستان) میں بھی۔۔۔۔۔ حضرت

شاہ صاحب کے ہاں ۸ صاحبزادیاں اور ۳ صاحبزادگان ہوئے، صاحبزادگان کے اسماء

گرامی یہ ہیں :-

(۱) ابو الفیض بلال فاروقی مجددی (م، ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء)

(۲) ابو الحسن زید فاروقی مجددی (م، ۱۴۱۳ھ / ۱۹۹۳ء)

(۳) ابو السعید سالم فاروقی مجددی (م، ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۷ء)

حضرت شاہ صاحب کے وصال کے وقت حضرت بلال کی عمر شریف تقریباً ۲۲ سال تھی، حضرت زید کی عمر شریف ۷۱ سال اور حضرت سالم کی عمر شریف ۱۵ سال (۱)۔ الحمد للہ خانقاہ مظہریہ، دہلی کی مسند پر حضرت ابو النصر انس فاروقی مجددی رونق افروز ہیں اور کونٹہ کی مسند پر حضرت ابو حفص عمر فاروقی مجددی جلوہ افروز ہیں۔۔۔۔۔ مولیٰ تعالیٰ دونوں مسندوں کو آباد رکھے اور روحانی و علمی فیض جاری و ساری رہے۔ امین!

حضرت بلال فاروقی مجددی علیہ الرحمہ کے صاحبزادگان کونٹہ میں ہیں، راقم کا ان سے تعارف نہیں اس لئے ان کے بارے میں زیادہ لکھنے سے قاصر ہوں، مولیٰ تعالیٰ ان کی مسند کو شاد آباد رکھے۔ امین!



حضرت ابو الحسن زید فاروقی مجددی علیہ الرحمہ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کے حالات میں ”مقامات خیر“ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے، جو شاہ ابو الخیر اکادمی، دہلی نے شائع کر دی تھی، اس کا دوسرا ایڈیشن

(۱) حضرت بلال علیہ الرحمہ کے ہاں چار صاحبزادے اور چھ صاحبزادیاں ہوئیں، اور صاحبزادے حضرت عبداللہ فاروقی اور حضرت عبید اللہ فاروقی حیات ہیں غالباً کونٹہ میں ہیں۔ حضرت زید علیہ الرحمہ کے ہاں تین صاحبزادے اور چھ صاحبزادیاں ہوئیں صاحبزادوں میں کوئی نہیں۔ البتہ ایک پوتے ابو النصر انس صاحب سجادہ ہیں۔ حضرت سالم علیہ الرحمہ کے ہاں چھ صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں ہوئیں



(۱۳۰۹ھ / ۱۹۸۹ء) فقیر کے سامنے ہے جو ۸۰۰ صفحات پر مشتمل ہے، اس میں حضرت شاہ صاحب کی نگارشات کے ذیل میں چند تحریرات کا ذکر فرمایا ہے مگر فتاویٰ کا ذکر نہیں۔۔۔۔۔ فقیر حضرت والد ماجد مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ کے فتاویٰ تلاش کر رہا تھا، قلمی ذخیرے میں حضرت شاہ صاحب کے تین فتاویٰ نظر آئے جو اپنے موضوع پر نہایت اہم ہیں، چونکہ آپ کی سوانح میں فتاویٰ کا ذکر نہیں اس لئے ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس لئے یہ طے کیا کہ تخریج و ترتیب کے بعد ان کو شائع کر دیا جائے اور آپ کی مختصر سوانح بھی ساتھ شامل کر دی جائے۔ اس اہم کام کے لئے آزاد کشمیر کے مشہور و معروف نقشبندی بزرگ حضرت مخدومی قاضی محمد صادق نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ (جامع مسجد الفردوس، گلہار، کوٹلی) کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضرت ممدوح نے یہ کام اپنے لائق و فائق پوتے، گرامی منزلت قاضی محمد عبدالسلام نقشبندی مجددی استاد دارالعلوم سلطانیہ، جہلم (ابن مولانا قاضی محمد عبدالواحد نقشبندی مجددی مدظلہ العالی، المعروف بہ حاجی پیر صاحب) کے سپرد فرمایا، موصوف نے جس عرق ریزی اور جانکاہی سے یہ کام کیا دیکھ کر دل خوش ہو گیا اور ان کے لئے دل سے دعائیں نکلیں۔ مولائے کریم ان کو دارین میں سرفراز فرمائے اور وہ آسمانِ علم و عرفان پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکیں۔ امین! فقیر نے اس مجموعہ کا نام ”فتاویٰ خیر یہ“ تجویز کیا ہے۔

فتاویٰ خیر یہ میں حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے اہم سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے ہیں اور جس عالمانہ وقار اور عارفانہ سنجیدگی و متانت سے تحریر فرمائے ہیں اس نے معاصر علماء حق میں آپ کو نہایت ممتاز کر دیا ہے۔

یہ مسائل ملتِ اسلامیہ کو آج بھی درپیش ہیں خصوصاً وہ مسائل جن تعلق

حکومت اور انتظامیہ سے ہے اور جن کی طرف علماء بالعموم توجہ نہیں فرماتے۔۔۔۔۔  
 مسلم معاشرے کو درپیش مسائل بھی اہمیت سے خالی نہیں، اس قسم کے مسائل پر سالہا  
 سال سے گفتگو کی جا رہی ہے اور سمجھانے والے برابر سمجھا رہے ہیں، مگر سمجھنے والے  
 سمجھنے کے لئے تیار نہیں، یہ صورت حال نہایت تشویشناک ہے اور اس سے یک جہتی  
 اور یگانگت کا تصور خواب و خیال ہوتا جا رہا ہے، کیا اچھا ہو کہ ایسے قارئین کرام اس  
 عارفِ کامل کے فرمودات کی طرف توجہ فرمائیں (جو بڑے وزنی ہیں) اور فکر و عمل کی  
 اصلاح کی طرف متوجہ ہوں پھر یقیناً اتحاد و اتفاق کی فضا سازگار ہوتی چلی جائے گی۔  
 انشاء اللہ تعالیٰ۔

فتاویٰ خیر یہ میں تین استفتاءات ہیں جن میں سات سوالات ہیں۔ تین کا  
 تعلق اسلامی حکومت اور انتظامیہ سے ہے اور چار سوالات کا تعلق مسلم معاشرے سے  
 ہے۔ یہ اس ولی کامل کے فتوے ہیں جو ”اہل ذکر“ میں سے تھے جن کے لئے قرآن  
 حکیم میں یہ ارشادِ ربانی ہے :-

﴿فَسئَلُوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون﴾

مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو فتاویٰ خیر یہ سے استفادہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خیر رفیق فرمائے، اور حضرت فاضل مصنف علیہ الرحمہ کو اپنے جوارِ اقدس میں مقام رفیع عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہم کو مستفیض فرمائے اور ان کی قبر شریف کو اپنے انوار و تجلیات سے معمور فرمائے۔ آمین!

مثل ایوان سحر مرقد فرازاں ہوتا  
نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہوتا

و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ و ازواجہ و اصحابہ وسلم

۲۹، شوال مکرم ۱۴۱۹ھ

احقر محمد مسعود عقی عنہ

۱۶، فروری ۱۹۹۹ء

۲/۱۷-سی، پی۔ای۔سی۔ ایچ سوسائٹی کراچی (سندھ، پاکستان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَنْ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ رِیْضِیْ  
مَنْ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ رِیْضِیْ  
مَنْ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ رِیْضِیْ



# فتاویٰ خیریہ

حضرت شاہ ابو الخیر عبداللہ محی الدین فاروقی مجددیؒ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علماء دین و مفتیان شرع مطہین مندرجہ ذیل مسائل میں بیان فرماتے ہیں

(۱) یہ کہ کسی مسلمان عام وقت کو اپنی مسلمان بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔

(۲) یہ کہ کبھی مسلمان جسکی مالی حالت خراب ہے اس کے ساتھ کسی مسلمان عام ٹیکس وصول کنندہ کو کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔

(۳) یہ کہ کبھی مسلمان عام کو اپنے محکم مسلمان کی غلطی اور قصور و معاف کرنا اور جو کسیر رحم کھاتا اور اس کے ساتھ انصاف اور رعایت کرنا کیا ہے۔

اجواب هو الموفق للفواب

حاکم وقت پر مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کرنی اور خوش آسوں سے برتاؤ کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا اور ظلم سے بیزاری اور باقاعدہ اسکی تحقیق کرنا اور عوط سے رہنمائی فرمادہ رکھنا لازم ہے کہ تمام مسائل کے سببہ نظام استنباطیہ کی مدد سے اور الاطلاق امام عادل و شایع نشانی عبادۃ اللہ اور تمام اصول و قواعد ان کے ساتھ ساتھ علی شاہ بن نور علی بن الرمن اللذین لعلوہ فی حکم و اھل بیت و من ابی مرثد و قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل قال من سمع المسلمین من لسانہ و یدہ و یدہ سمان حاکم کو چاہیے کہ اگر قدرت سے نہ سادہ نہ اسکو صحت دے اور اسکا ساتھ نرمی سے کام لینے کیونکہ یہ ٹیکس خوشنظر کرتی ہیں یا فقیر ظلم سے لکن چونکہ حاکم بھی گورنمنٹ سے مجبور ہیں اسلئے حکم بالہ میں سے کسی ایک کا حکم نہیں کر سکتے ہیں اگر بخت زیان سے اور صلہ رحمی میں داخل ہے من عبد اللہ بن عبد اللہ انہ سمع اباجورق عن انس بن مالک کان یاجزید ابن الناس فاذا سار مسرعا قال لفتیہ نہ تھابوز و اعنہ لعل اللذان یتجاوز عن عاصی و من خذ لفتیہ قال سمعت انبی علی یقول مات رجل فقیل لہ ما کنت تفعل قال کنت اباجورق من اناس فاجوز عن انہ و انصف عن المسر و قال اللہ فاتباع یا لمخوف احادیثہ بالذکر لکن کانتی عنہ و خبرنہ فی بعدہ سے چھوڑ دیئے ہیں یا نوکر کی لیر کی انتظار کیئے ہیں پس وہ شہر جسے کسی نظام کا ظلم

عن كريب بن يحيى قال سمعت ابا جعفر اول زمانه يقول كما قال رسول الله من انظر مشرا فان ليل يومئذ  
ومن انظره مدحله كان مثله كل يوم صدقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر مشرا في الدنيا والآخرة  
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يظلم في ظلمة فليظلم مشرا وليضح له (٣٥) كعبت رجاها عن ابى ذر  
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم انكم جميعا القديت بيديع فمن كان اوجه تحت يده فليطويه من طعانه ويلبسه  
عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم اعفون عن اعدائكم فقال  
كم اعفون عن اعدائكم يا رسول الله قال في كل يوم سبعين مرة + وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفون عن الناس  
وقال تعالى وليعفوا وليعفو الله عن ان يعفو الله عنكم والله غفور رحيم وقال تعالى فاعف عنهم  
واصفح والله يحب المتصفين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس من يؤمن كربة من كربة  
نفس الله عنه كربة من كربة يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم شاة اخيه فان  
سأى به اذى فليط عنه +

حضره عمه ابي جعفر الوائز عفره والوالديه

الشيخ  
عبد الله بن  
الشيخ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

استفتاء نمبر ۱

علماء دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کیا فرماتے ہیں۔  
[۱] یہ کہ کسی مسلمان حاکم وقت کو اپنے (۱) مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہئے۔

[۲] یہ کہ ایک مسلمان جس کی مالی حالت خراب ہے اس کے ساتھ کسی مسلمان حاکم ٹیکس وصول کنندہ کو کیسا برتاؤ کرنا چاہئے۔

[۳] یہ کہ ایک مسلمان حاکم کو اپنے محکوم مسلمان کی غلطی اور قصور کو معاف کرنا اور اس پر رحم کھانا اور اس کے ساتھ انصاف اور رعایت کرنا (۲) کیسا ہے۔

(الجهور هو الموفق للصواب)

[۱] حاکم وقت پر مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کرنا (۳) اور خوش اسلوبی سے برتاؤ کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا اور مظلوموں کی فریاد سننا اور باقاعدہ اس کی تحقیق کرنا اور ہر طرح سے اُن کا (۴) خیر خواہ رہنا لازم ہے۔

كما قال رسول الله ﷺ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الاّ

[۱] فی الاصل "اپنی"

[۲] فی الاصل "کیا"

[۳] فی الاصل "کرنی"

[۴] فی الاصل "انہوں"

[۵] فی الاصل "کہ" کا اضافہ ہے یعنی عبارت یوں ہے "لاظله له الاظله"

ظله امام عادل و شاب نشاء فى عبادة الله الخ

(ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سات قسم کے لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پلا بڑھا لے) (۶)

وقال رسول الله ﷺ ان المقسطين عند الله على منابر من نور على

[۶] (الف) سنن النسائی، باب القصاص، ص ۳۰۲

(ب) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۰، ص ۳۳۸۔

(ج) المعجم الاوسط، ج ۷، ص ۱۷۴

(د) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۳۱

(ه) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۱۸۲

نوٹ: [۱] صحیح مسلم اور مسند الامام احمد حنبل کی روایت میں الامام

العادل (لام تعریف کے ساتھ) ہے۔ باقی کتب میں لام تعریف کے بغیر ہے۔

[۲] بقیہ حدیث یوں ہے۔ ورجل قلبه معلق فى المسجد ورجلان

تحابا فى الله اجتماعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب

وجمال فقال انى اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم

يمينه ماتنق شماله ورجل ذكر الله خاليا فضاقت عيناه.

( عن ابى هريرة )

ترجمہ: اور جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ وہ دو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے آپس

میں محبت کریں اسی کی خاطر اکٹھے ہوں اور اسی کی خاطر جدا ہوں۔ وہ شخص جسے کوئی

مقتدر اور حسین عورت (گناہ کی) دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔



یمنین الرحمن الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم

(ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے حکم اور اہل و عیال میں عدل کیا کرتے تھے۔) (۷)

وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ما الاسلام (۸) افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔

وہ جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور وہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔

[۷] (الف) صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۲۱

(ب) سنن النسائی، کتاب القضاة، ص ۳۰۲

(ج) کنز العمال، جلد ۶، ص ۸

(د) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۰، ص ۳۳۶

(ه) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۱۲۱

مسند الامام احمد بن حنبل میں یہ حدیث بدین الفاظ مروی ہے۔

ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لثو لثو یوم القیامة بین یدی الرحمن

بما اقسطوا فی الدنیا۔

(ترجمہ : دنیا میں انصاف کرنے والے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے

موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے (یہ اعزاز ان کو) دنیا میں انصاف کرنے کی

وجہ سے عطا ہوگا۔)

[۸] فی الاصل "مالا سلام"۔

(ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ﷺ مسلمانوں میں سے افضل کون ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔) (۹)

[۲] مسلمان حاکم کو چاہئے کہ یہ ٹیکس اس شخص سے، اگر قدرت ہے، نہ لے ورنہ اس کو مہلت دے اور اس کے ساتھ نرمی سے کام لے کیونکہ یہ ٹیکس ہر شخص کے حق میں، غنی، ہو یا فقیر ظلم ہے لیکن چونکہ حاکم بھی گورنمنٹ کی طرف سے مجبور ہیں اس لیے حکم بالا میں سے کسی نیک کے حکم کی تعمیل کرے اس میں اجر بہت زیادہ ہے اور صلہ رحمی میں داخل ہے۔

- [۹] (الف) صحیح بخاری، ج ۱، ص ۶۔ راوی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ
- (ب) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۸۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
- (ج) المعجم الاوسط، ج ۴، ص ۲۰۷۔ راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
- (ھ) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۵، ص ۵۲۲ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ
- مندرجہ بالا کتب میں درج بالا راویوں سے بدیں الفاظ مروی ہے۔
- ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویدیه۔
- (و) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۸
- (ز) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۲، ص ۱۲۵
- ان دونوں کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ان لفظوں کے ساتھ روایت ہے۔ ای المسلمین خیر
- (ح) صحیح بخاری، ج ۱، ص ۶
- (ط) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۲، ص ۱۲۵

عن عبیداللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انہ سمع ابا ہریرۃ عن النبی  
 ﷺ کان تاجر یداین الناس فاذا رای معسرا قال لفتیانہ تجاوزوا عنہ  
 لعل اللہ ان یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ۔ (۱۰)

(ی) الادب المفرد والامام البخاری، ص ۴۴۱

(ک) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۴۸۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔

ان کتب میں آپ سے بدیں الفاظ حدیث مروی ہے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔

(الف) صحیح بخاری، ج ۱، ص ۲۷۹ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ [۱۰]

(ب) صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۸ عن ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(ج) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۱، ص ۴۲۱، باب الادیون

(د) سنن النسائی، ج ۲، ص ۲۳۳، باب حسن المعاملات والرفق فی

المطالبة فی البیوع میں بدیں الفاظ روایت ہے۔

فاذا رای اعسار المعسر قال لفتاہ تجاوز لعل اللہ یتجاوز عنا فلقى اللہ  
 فتجاوز عنہ۔

ترجمہ: جب کسی تنگ دست کی مفلسی کو دیکھتا ہے تو اپنے کارندے سے کہتا درگزر کرو

شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمادے (مرنے کے بعد) جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمادیا۔

(ه) سنن النسائی، ج ۲، ص ۲۳۳۔ میں حضرت عثمان بن عفان رضی

اللہ تعالیٰ عنہما سے یوں روایت درج ہے۔

ادخل اللہ عزوجل رجلا کان سهلا مشتریا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة

(ترجمہ: ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے کارندوں کو کہتا کہ اس سے ور گزر کرو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔)

عن ابی حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی ﷺ یقول مات رجل فقیل له ما کنت تفعل قال کنت ابایع الناس فاتجو ز عن الموسر و اخفف عن المعسر۔ (فغفرله)

(ترجمہ: حضرت اہلی حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا ایک آدمی مر گیا اس سے سوال کیا گیا، تو کیا کرتا تھا، اس نے کہا، میں لوگوں سے بیع کرتا تھا کشادہ حال شخص سے کھوٹے سکے قبول کر لیتا اور تنگ دست سے تخفیف کرتا تھا۔ اسے بخش دیا گیا۔) (۱۱)

قال اللہ تعالیٰ فاتباع بالمعروف

(ترجمہ: مقتول کے وارث خون بہا کا مطالبہ دستور کے مطابق کریں۔) (۱۲)  
احادیث بالا ان لوگوں کے حق میں ہیں۔

(ترجمہ: آقائے دو عالم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا جو خریدنے اور فروخت کرنے اور فیصلہ دینے اور فیصلہ سننے میں نرم خو تھا)

[۱۱] صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۲۲۔

نوٹ: غفرلہ کے الفاظ اصل تحریر میں موجود نہیں

[۱۲] البقرہ آیت ۱۷۸

(۱۳) جنہوں نے اپنے (حقوق) (۱۴) رحمدلی سے چھوڑ دیئے ہیں یا معسر کے لئے کما حقہ انتظار کرتے ہیں (۱۵) پس وہ شخص جس نے کسی ظالم کے ظلم سے کسی غریب کو بچالیا اس کے لئے اجر بطریق اولیٰ زیادہ ہوگا۔ (۱۶)

كما قال رسول الله ﷺ من انظر معسر اكان له كل يوم صدقة ومن انظر بعد حله كان مثله كل يوم صدقة

(ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص تنگ دست کو مہلت دے ہر دن اس کے لئے صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور جو مقروض کو مقررہ تاریخ کے بعد مہلت دے، تو اس کے لئے اس کی مثل ہر دن صدقہ کرے گا ثواب ہے) (۱۷)

وقال رسول الله ﷺ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة (۱۸)

[۱۳] فی الاصل "ہے"۔

[۱۴] اصل تحریر میں لفظ مٹا ہوا ہے اندازہ سے لکھا گیا ہے۔

[۱۵] فی الاصل "معسر کی یسر کی انتظار کیئے ہیں" معسر۔ تنگ دست یسر۔ فراخ دستی

[۱۶] فی الاصل "ہوگی"۔

[۱۷] (الف) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۶، ص ۴۸۲۔ (عن ابی بریدہ)

(ب) کنز العمال، ج ۶، ص ۲۱۸۔ بالقاظ متقاربة۔ من انظر معسرا بعد حلول

اجله كان له بكل يوم صدقة۔

(ج) سنن دارمی، ج ۲، ص ۱۷۲۔

[۱۸] (الف) صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۴۵ (عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ب) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۱، ص ۴۲۵۔ (عن ابی ہریرہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ)

(ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔)

وقال رسول الله ﷺ من احب ان يظله في ظله فلينظر معسرا وليضع له۔

(ترجمہ: حضرت ابی یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے وہ مقروض پر آسانی کرے یا معاف کر دے۔) (۱۹)

[۳] بہت اچھا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول الله ﷺ اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ طعامہ و یلبسہ من لباسہ۔ (۲۰)

(ج) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۴۹۷ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ)

(ھ) سنن ابوداؤد، ج ۲، ص ۳۲۸ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(و) جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۴۔ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ز) سنن ابن ماجہ، ج ۲، ص ۲۰۔ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

[۱۹] (الف) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۴، ص ۴۴۳۔

(عن ابی یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ب) کنز العمال، ج ۶، ص ۲۱۹۔ (عن ابی یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

[۲۰] (الف) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۶، ص ۱۹۸ (عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ب) جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۶۔ (عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ج) کنز العمال، ج ۹، ص ۱۷۲۔ (عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ھ) صحیح بخاری، ج ۱، ص ۹۔ (عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)



(ترجمہ: حضرت اہلی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائیوں کو تمہارے قبضہ میں دیا ہے پس جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو اسے چاہیے کہ اپنے کھانے سے اس کو کھلائے اور اپنے لباس سے اسے پہنائے۔)

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ كم اعفو عن الخادم فصمت النبي ﷺ ثم قال كم اعفو عن الخادم يا رسول الله ﷺ قال في كل يوم سبعين مرة۔

(ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ خادم کو کتنی دفعہ معاف کیا کروں۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے اس شخص نے پھر عرض کی آپ نے فرمایا ہر دن ستر دفعہ) (۲۱)

وقال رسول الله ﷺ من لم يرحم الناس لم يرحم الله۔

(ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔) (۲۲)

وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ (۲۳)

(ترجمہ: چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ

[۲۱] جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۶ (عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه)

[۲۲] (الف) جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۴ (عن جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه)

(ب) صحیح ابن حبان، ج ۲، ص ۲۱۱۔ (عن جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه)

(ج) الادب المفرد، ص ۲۳۔ (عن جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه)

[۲۳] سورة النور۔ آیت نمبر ۲۲

تمہاری مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔)

وقال تعالى فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين۔

(ترجمہ: ان کو معاف فرما دیجئے اور درگزر فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے

والوں سے محبت فرماتا ہے۔) (۲۴)

وقال رسول الله ﷺ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة۔

(ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کا کوئی غم دور

کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تنگیوں سے تنگی دور فرمادے گا۔) (۲۵)

وقال رسول الله ﷺ ان احدكم مراة اخيه فان راى به اذى فليمطه عنه۔

(ترجمہ: تم سے ہر ایک اپنے بھائی کے لئے آئینہ ہے اگر اس میں کوئی ناگوار امر دیکھے تو

اس کو دور کر دے۔) (۲۶)

سورة عبدة العفيرة ابو العفيرة ولو الرد

الاجوبة كلها صحیحہ

(محمد محمد مظہر اللہ بخیر لہ (اما) مدجد فسم بوری و ابلی

[۲۴] سورة المائدة آیت نمبر ۱۳

[۲۵] (الف) جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۴۔ (عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ب) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۴۹۷ (عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ج) المستدرک، ج ۴، ص ۲۷۰ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(د) کنز العمال، ج ۱۵، ص ۹۰۴۔ (عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

[۲۶] (الف) کنز العمال، ج ۹، ص ۲۶۔ (عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(ب) جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۴۔ (عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### استفتاء نمبر ۲

- کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین حسب ذیل مسائل میں کہ
- [۱] غیر خدا کو سجدہ کرنا اور نیز اپنے پیر کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو جائز کہنے والے کی نسبت شرعی حکم کیا ہے۔
- [۲] اہل قبور یعنی اولیاء اللہ و بزرگان دین سے اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کرنی جائز ہیں یا نہیں؟
- [۳] حضرت پیران پیر کی گیارہویں مقرر کرنی اور اس کا ایسا تعین کرنا کہ آگے پیچھے اس کے کرنے کو ناجائز خیال کیا جائے شرع شریف میں کیسا ہے؟
- بینوا و توجروا .

### الجواب هو الموافق للصواب

سجدہ تحیہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔

كما في المدارك

وكان سجود التحية جائزاً فيما مضى من الزمان ثم نسخ بقوله عليه السلام لسلمان حين اراد ان يسجد له لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد الا لله تعالى .

(ترجمہ: پہلے زمانہ میں سجدہ تحیہ جائز تھا۔ پھر منسوخ ہو گیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جب آپ نے حضور ﷺ کو سجدہ

کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق میں سے کسی کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں) (۱)  
وفی التفسیر العزیزی

وما یفعله کثیر من الجهلة من السجود بین یدی المشائخ فان ذالک حرام قطعاً.

(ترجمہ: سجدہ جو جاہل لوگ مشائخ کرام کے سامنے کرتے ہیں قطعی حرام ہے)  
وفی الخازن

لا یسجد بعضنا لبعض لان السجود لغير الله حرام

(ترجمہ: مسلمان ایک دوسرے کو سجدہ نہ کریں کیوں کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے)

فی شرح المناسک للقاری

اما السجدة فلا شک انها حرام

(ترجمہ: سجدہ بلاشبہ حرام ہے۔) (۲)

فی العالم الکبیرہ

من سجد للسلطان علی وجه التحیة او قبل الارض بین یدیہ لایکفر

(ترجمہ: جس نے بادشاہ کو سجدہ تعظیسی کیا یا اس کے سامنے زمین بوس ہو اس کو کافر

نہیں قرار دیا جائے گا) (۳)

[۱] مدارک التزیل علی ہامش الخازن، ج ۱، ص ۲۵ نعمانی کتب خانہ لاہور۔

[۲] المسلك المتقسط فی المنسک المتوسط علی لباب المناسک،

ص ۳۴۲، دار الفکر بیروت.

اصل نسخہ میں عبارت محو ہے اندازہ سے یہ حوالہ لکھا گیا ہے۔

[۳] فتاویٰ عالمگیریہ، ج ۵، ص ۳۶۸، مطبع الکبری الامیریہ مصر.

ولاکل بالاسے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ تجیہ قطعاً حرام ہے لیکن جائز رکھنے والا کافر نہیں۔

کما فی العالمگیریہ

من اعتقد الحرام حلالاً او علی القلب لا یکفر ..... هذا اذا كان  
حراماً لعینه اما اذا كان حراماً لغير فلا وفيما اذا كان حراماً لعینه انما یکفر  
اذا كانت الحرمة ثابتة بدلیل مقطوع به اما اذا كانت باخبار الآحاد فلا  
یکفر (کذا فی الخلاصة ملخصاً)

(ترجمہ: جس نے حرام کو حلال اعتقاد کیا یا اس کے برعکس اس کی تکفیر کی جائے گی یہ  
اس صورت میں ہے جب حرام لعینہ ہو لیکن اگر حرام لغير ہو تو تکفیر نہیں کی جائے گی  
اور حرام لعینہ کی صورت میں تکفیر صرف اس وقت ہوگی جب حرمت دلیل قطعی سے  
ثابت ہو اور اگر خبر واحد سے ثابت ہو تو تکفیر نہیں کی جائے گی خلاصہ میں اسی طرح  
ہے۔) (مختصراً) (۴)

[۲] تو سل جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

عن عثمان بن حنیف قال ان رجلاً ضریر البصر اتى النبی ﷺ فقال ادع  
الله تعالیٰ ان یعافینی قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لك  
قال فادعه فامرہ ان يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء

اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة ﷺ (يا محمد)  
انى توجهت بك الى ربي ليقضى لى فى حاجتى هذه اللهم فشفعه فى رواه  
الترمذى. (۵)

- [۵] جامع ترمذى، ج ۲، ص ۱۹۸، مطبوعه سعيد كمپنى كراچى.  
نوٹ: مجتہائی دہلی، نور محمد كارخانه تجارت كتب كراچى اور سعيد كمپنى كراچى كى مطبوعه  
ترمذى ميں يا محمد كے الفاظ نہيں ہيں جبکہ  
(الف) الاذكار، امام نووى، ص ۱۶۷، مطبوعه المكتبه الاسلاميه  
استانبول تركى ميں حوالہ ترمذى و ابن ماجه.  
(ب) حصن حصين، امام جزرى، ص ۱۲۲، مطبوعه نول كسور  
لكهنوء ميں حوالہ ترمذى، نسائى، ابن ماجه اور مستدرک.  
(ج) مجموع الفتاوى ابن تيميه، ج ۱، ص ۲۶۷، مطبوعه مكتبه  
النهضة الحديثيه ميں حوالہ مسند الامام احمد بن حنبل اور ابن ماجه.  
يا محمد كے الفاظ موجود ہيں۔

وضاحت:

الحرز الثمين شرح الحصن الحصين، ملا على القارى، ص ۳۵۸، مطبوعه نول كسور  
لكهنوء اور الحرز الوصين شرح الحصن الحصين مؤلف فخر الدين محبت اللہ نبيرہ شيخ  
عبدالحق محدث دہلوى، ص ۳۰۶، مطبوعه نول كسور لكهنوء ميں يا محمد كے  
الفاظ كو بغير تنقيد كے ثابت ركھا گیا ہے۔



(ترجمہ : حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضور سرور انبیاء ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے صحت عطا فرمادے، آپ نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے تو دعا کرتا ہوں اور اگر تو چاہتا ہے تو صبر کر یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کی، دعا فرمائیں، آپ نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر اور یہ دعا کر اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری بارگاہ میں تیرے نبی، نبی رحمت حضرت محمد ﷺ کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کی وساطت سے اپنے پروردگار کے دربار میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری یہ حاجت پوری کر دے اے اللہ آپ کو میرا شفیع بنا دے!)

پس اس (۶) شخص نے آنحضرت ﷺ کو وسیلہ ٹھہرایا اور دعا مانگی پس اس کی آنکھ اچھی ہو گئی بغیر اس کے کہ آنحضرت اس کے لئے کوئی خاص دعا کریں (۷) پس اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ولی کو وسیلہ ٹھہرا کے دعا کرے پس موافق زعم مانعین کے اگر ان کے نزدیک دعا کرنے کے (معنی) استمداد نہ بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ مقبول بارگاہ ہو جائے گا کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت نے اس کے لئے دعا نہیں کی صرف تو تسل کی برکت سے (آنکھ) اچھی ہو گئی ایسے (۸) (ہی) ہم اگر تو تسل کریں تو اللہ (سے) اس معنی (کا لحاظ) کر کے کہ ہمارے محبوب کے نام سے سوال کیا ہے، مقصود پورا کرنے کی امید ہے۔

[۶] فی الاصل "ایسی"۔

[۷] فی الاصل "اس کے"

[۸] فی الاصل "ایسی"

بہت سے دلائل سے یہ بھی ثابت ہے کہ بزرگان دین بعد موت دوسرے کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اہل قبور سے مانگنا اگر اس معنی کر کے کہ وہ اپنے تصرف میں مستقل ہنر ہے تو خرابی ہے لیکن اگر یہ معنی ہیں (۹) کہ خدا کے پاس دعا کر کے دلا دو تو جائز ہے۔

[۳] گیارہویں شریف کے لئے تعین تاریخ بلاشبہ جائز ہے کیونکہ بلا تعین تاریخ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے رہا یہ کہ یوم وفات کو خاص کرنے کی ضرورت کیا ہے سو وجہ اس کی (۱۰) یہ ہے کہ ان پر ایصالِ ثواب اس دن شروع ہوا ہے جس دن انکا انتقال ہوا تھا۔ سو ایصالِ ثواب کی ایک خاص مناسبت اس دن سے ہے جو باقی دنوں میں نہیں ہے اور ایسی تعین تاریخ حدیث میں بہت سی جگہ میں آئی ہے۔

حدثنا زیاد بن ایوب حدثنا هشيم انا ابو بشر عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال لما قدم النبي ﷺ المدينة وجد اليهود يصومون فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي اظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصوم تعظيماً له فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم وامر بصيامه.

(ترجمہ: نبی پاک ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے پایا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا، وہ کہنے لگے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، ہم اس دن کی تعظیم کی خاطر روزہ

[۹] فی الاصل "کرے"

[۱۰] فی الاصل "ہے"

رکھتے ہیں نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا (۱۱)

عن ابی قتادة قال سئل رسول الله ﷺ عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي رواه مسلم

(ترجمہ: حضرت رسالت مآب ﷺ سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی۔ اسی دن مجھ پر (پہلی) وحی نازل ہوئی۔) (۱۲)

پس ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعین تاریخ کوئی بُری چیز نہیں ہاں اگر کوئی شخص اس تاریخ مقررہ پر اگر اس خیال سے زور دیتا ہے کہ اس کو آگے پیچھے کرنا جائز ہے تو یہ خیال بدعت ہے لقوله عليه السلام من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد.

حرره ابو الخیر غفر له ولو الدرہ

اللاجوبہ کلہا صحیحہ

محمد مظهر اللہ غفر له

(اما) مسجد فتحپوری

[۱۱] صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۵۹، مطبوعہ آرام باغ کراچی

[۱۲] صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۶۷، مطبوعہ آرام باغ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

استفتاء نمبر ۳

(کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ ایصالِ ثواب کے لئے تاریخ

مقرر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟)

(الجهول هو الموفو للصور)

مجوزین اور مانعین دونوں فریق کا (۱) اس بات پر اتفاق ہے کہ ایصالِ ثواب بغیر تعینِ تاریخ جائز اور مستحسن ہے لیکن کلام صرف تعینِ تاریخ میں ہے جس طرح سے سوال میں مذکور ہے آیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنا (۲) چاہتے ہیں وباللہ التوفیق۔

مخفی نہ رہے کہ شریعت میں بعض دنوں کی فضیلت بعض پر آئی ہے اسی طرح سے بعض دن کی وہ خصوصیات ہیں (۳) جو دوسرے دن میں نہیں ہیں (۴) مثلاً جمعہ۔ لیلة النصف من شعبان اور لیلة القدر وغیرہ ان دنوں میں اگر کوئی اس خیال سے کہ ان دنوں کے (۵) عمل سے زیادہ اجر ملے گا اگر کوئی دوسرے دن کی بہ نسبت زیادہ عبادت کرے یا اس کو دوسرے دنوں کی بہ نسبت زیادہ باہرکت سمجھے وہ امر مشروع

[۱] فی الاصل "کی"

[۲] فی الاصل "کرنے"

[۳] فی الاصل "ہے"

[۴] فی الاصل "ہے"

[۵] فی الاصل "کی"

ہے جیسا کہ اوپر کے دنوں کے متعلق حدیثوں میں جو کچھ آیا (۶) ہے ہر شخص بلکہ خاص طور پر علماء کو اس کے متعلق خوب علم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ایام مذکورہ کے متعلق حدیثوں میں جو فضائل آئے (۷) ہیں، آیا برکت ان میں آنا معلل بالعللہ ہے یا نہیں۔ سو دیکھتا ہوں بعض ایام کی خصوصیات میں جو حدیثیں آئی ہیں (۸) ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ معلل بالعللہ ہیں (۹) چنانچہ جمعہ کے متعلق حدیث میں آیا (۱۰) ہے کہ اس دن خلقت آدم علی نبینا وعلیہ السلام تمام ہوئی ہے اور اس دن میں ان کو بہشت میں جگہ دی ہے اور وہاں سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہو گی (۱۰)۔ اس طرح سے لیلة القدر کی فضیلت معلل بہ نزول قرآن ہے۔ (۱۱) اسی طرح سے یوم عاشورہ کی فضیلت معلل بہ علت بنجاة موسیٰ من فرعون ہے۔

[۶] فی الاصل "آئی"

[۷] فی الاصل "آئی ہے"

[۸] فی الاصل "ہے"

[۹] فی الاصل "ہے"

[۱۰] (الف) فی الاصل "آئی"

(ب) فیہ خلق آدم و فیہ ادخل الجنة و فیہ اخرج منها و لا تقوم

الساعة الا فی یوم الجمعة. (عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(صحیح مسلم شریف، ج ۱، صفحہ ۲۸۲)

(ج) شرح السنہ، ج ۴، ص ۲۰۷

[۱۱] انا انزلناہ فی لیلة القدر و ما ادراک مالیلة القدر لیلة القدر خیر من الف

شہر. سورة القدر آیت ۳ تا ۴

(۱۲) وغیر ذلک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنوں (۱۳) کے فضائل اور خصوصیات سب میں علت کو دخل ہے جب یہ بات ثابت ہو چکی۔ (۱۴) تو پہلے ہم بدعت کے (۱۵) معنی کرتے ہیں۔ بدعت غیر دین کو دین میں داخل کرنے کا نام ہے۔ جتنے (۱۶) مسائل نئے (۱۷) پیدا ہوں اس کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ میں ملتی (۱۸) ہو تو وہ بدعت نہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے۔

[۱۲] قدم النبی المدینة فرای الیہود تصوم یوم عاشوراء فقال ماہذا قالوا  
 هذا یوم صالح هذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ  
 موسی قال فانا احق بموسی منکم فصامہ وا مر بصیامہ۔ (عن ابن عباس  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

صحیح البخاری، ج ۲، ص ۵۹۳، باب صیام یوم عاشوراء۔

(ترجمہ: نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہودی  
 عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے آپ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے وہ کہنے لگے یہ  
 باہرکت دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے دشمن سے نجات دی  
 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا آپ نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ  
 السلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔)

[۱۳] (الف) فی الاصل "دن"

[۱۴] فی الاصل "چکا"

[۱۵] فی الاصل "کی"

[۱۶] فی الاصل "جتنی"

[۱۷] فی الاصل "نئی"

[۱۸] فی الاصل "ملتی"



"من احدث فی امرنا مالیس منه فهورد" (۱۹)

(ترجمہ: جس شخص نے ہمارے (اس) دین میں نئی اختراع کی جو اس میں ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے۔) بر تقدیر پائے (۲۰) جانے اس کی (۲۱) اصل کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ میں تو وہ مالیس منه نہیں رہا بلکہ ماکان منه سے ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ گیارہویں شریف جو لوگ کیا کرتے ہیں اس دن کی (۲۲) تخصیص کے جائز ہونے کی کوئی وجہ بھی ہے یا نہیں۔ سو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیران پیر صاحب پر ایصالِ ثواب کرنا، مثلاً اس ساعت سے شروع ہوا جس دن، جس ساعت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ مردگان کے حق میں یوم وفات میں ایصالِ ثواب کرنا بہ نسبت دوسرے دنوں کے زیادہ نفع ہے۔ چنانچہ (جس دن روح قبض ہوتی ہے) اس دن وحشت زیادہ ہوتی ہے اسی وقت اگر زندوں کی طرف سے اگر کچھ ثواب ان کی روح پر پہنچے تو ان کی روح کے لئے موجب تخفیف ہے۔ اس لئے بہت سے (۲۳) امور یوم وفات میں ایسے کئے جاتے ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں کئے جاتے

[۱۹] (۱) صحیح مسلم، ج ۷، ص ۷۳۱، بیروت

(ب) کنز العمال، ج ۱، ص ۲۱۹

(ج) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۷، ص ۳۴۲

امرنا کے بعد صحیح مسلم اور کنز العمال میں لفظ هذا کا اضافہ ہے جبکہ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ هذا نہیں ہے۔

[۲۰] فی الاصل "پایا"

[۲۱] فی الاصل "کے"

[۲۲] فی الاصل "وہ"

[۲۳] فی الاصل "سی"

(۲۴) ہیں۔ مثلاً تلقین موتی فی القبور اور قرآن خوانی کے (لئے) قاریوں کو قبر پر بٹھلانا و صدقہ و غیرہ یوم وفات کو دوسرے دنوں کی (۲۵) بہ نسبت ایصالِ ثواب کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ (۲۶) اس لئے اسی کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے (۲۷) یہ زیادتی متعلق (۲۸) اس دن کے ساتھ ہے جس دن ان کا انتقال ہوا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی خاص وجہ سے کسی چیز میں کوئی خصوصیت آجائے تو اس (۲۹) سبب کے زوال سے اس چیز سے وہ خصوصیت نہیں جاتی۔ چنانچہ لیلة القدر میں یکدفعہ نزول قرآن ہوا تھا۔ ہمیشہ کے لئے وہ بابرکات ہے۔ اسی طرح سے حضور ﷺ کی ولادت یکدن ہوئی تھی (۳۰) لیکن دو شنبہ کی فضیلت ہمیشہ کے لئے رہ گئی (۳۱) چنانچہ اس لئے آنحضرت ﷺ ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے گو انتقال یکدن ہوا ہے لیکن اس قاعدہ سے اس کی خصوصیت باقی رہے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شب قدر، روز جمعہ، دو شنبہ کو بذاتہ فضیلت ہے امور مذکورہ بالا کی (۳۲) وجہ سے نہیں ہے

[۲۴] فی الاصل "کیا جاتا ہے"

[۲۵] فی الاصل "کے"

[۲۶] فی الاصل "ہے ہے بتکرار لفظ" ہے"

[۲۷] فی الاصل "ہے"

[۲۸] فی الاصل "تعلق"

[۲۹] فی الاصل "وہ"

[۳۰] فی الاصل "ہوا تھا"

[۳۱] فی الاصل "گیا"

[۳۲] فی الاصل "کے"

تو ہم کہتے ہیں۔ (۳۳) حدیثوں میں روز جمعہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اسی طرح سے لیلة القدر کے ذکر کے بعد جو مضامین بالا آچکے ہیں تو (۳۴) ہم کہتے ہیں (اسے) مضامین بالا کو بہتر اور برابر کات بنانے میں کچھ دخل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کا ذکر کرنا فضول ہے یعنی مثلاً اگر جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی خلقت (۳۵) کا تمام کرنا۔ (۳۶) ایسا ہی اسی دن ان کو بہشت میں داخل کرنا اس کو یا جمعہ کو برابر کات بنانے میں کچھ دخل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اس کا ذکر حدیث میں جہاں جمعہ کی فضیلت آئی ہے فضول ہے اگر ہے تو مدعا ثابت۔ یعنی حدیث معلل بالعلل ہے اور حدیث کو معلل بالعلل ماننے سے "من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہورد" کے (مضمون میں) داخل نہیں بلکہ اس (کے لازم کا) جو مضمون یہ ہوتا ہے "من احدث فی امرنا ماکان منه فہولیس بمرود" کے اندر (داخل ہوگا کما ثبت آنفا۔

ابو الخیر غفرلہ

سیدنا ابوالخیر  
 سیدنا ابوالخیر  
 سیدنا ابوالخیر

[۳۳] فی الاصل "ہے"

[۳۴] فی الاصل "الظاہر ان لفظہ" تو ہم کہتے ہیں "زائدہ"

[۳۵] فی الاصل "کی"

[۳۶] فی الاصل "کر"

## حقوق طباعت بحق ناشر محفوظ ہیں

- |                  |   |
|------------------|---|
| ۱۔ کتاب          | فتاویٰ خیر یہ                                     |
| ۲۔ مصنف          | حضرت شاہ ابو الخیر عبداللہ محی الدین فاروقی مجددی |
| ۳۔ تخریج و ترتیب | صاحبزادہ قاضی محمد عبدالسلام نقشبندی مجددی        |
| ۴۔ تقدیم نگار    | پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد                     |
| ۵۔ حروف ساز      | سلطانیہ پبلی کیشنز، جہلم                          |
| ۶۔ طابع و ناشر   | ادارہ مسعودیہ، کراچی، سندھ                        |
| ۷۔ طباعت         | ۱۴۱۹ھ ۱۹۹۹ء                                       |
| ۸۔ اشاعت         | اول   |
| ۹۔ تعداد         | ایک ہزار  |
| ۱۰۔ قیمت         | ۳۰ روپے   |

### ملنے کے پتے

- |    |   |
|----|---|
| ۱۔ | دارالعلوم سلطانیہ (کالادیو) جہلم، پنجاب                       |
| ۲۔ | ادارہ مسعودیہ، ۲/۶، ۵۔ ای، ناظم آباد، کراچی، سندھ             |
| ۳۔ | مکتبہ قادریہ، دربار مارکیٹ، داتا گنج بخش روڈ، لاہور           |
| ۴۔ | خانقاہ شریف، ۳۰ منزل خیر، شارع شاہ ابو الخیر، کوسٹہ، بلوچستان |

# فہرس

۳

صاحبزادہ قاضی محمد عبدالسلام

۱۔ حرف اوّل

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

۲۔ تقدیم

حضرت شاہ ابوالخیر عبداللہ محی الدین فاروقی مجددی

۳۔ فتاویٰ خیریہ

(۱) استفتاء نمبر ۱

سوال نمبر ۱۔ مسلمان حاکم کا مسلمان رعایا سے سلوک۔

۲۔ مسلمان حاکم کا پریشان حال رعایا سے ٹیکس وصول کرنا۔

۳۔ مسلمان حاکم کا محکوم مسلمان رعایا پر رحم کھانا اور رعایت کرنا۔

(ب) استفتاء نمبر ۲

سوال نمبر ۱۔ غیر خدا اور مرشد کو سجدہ تعظیمی کرنا۔

۲۔ اہل قبور سے حاجتیں طلب کرنا۔

۳۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ کی گیارہویں کرنا

اور تاریخ کا تعین کرنا

(ج) استفتاء نمبر ۳

سوال نمبر ۱۔ ایصالِ ثواب کے لئے تاریخ مقرر کرنا۔

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محسن اہل سنت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی مجددی مدظلہ العالی اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام و خطیب جامع مسجد فتح پوری دہلی کے فتاویٰ کا ایک مجموعہ فتاویٰ مظہری کے نام سے مرتب فرما کر شائع کر چکے ہیں۔ مزید تلاش و جستجو میں ان کو یہ فتاویٰ ملے۔ ان میں سے بعض پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصدیقی دستخط بھی ہیں۔ آپ نے فقیر کے جدا مجد دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ارسال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم امانت فقیر کے سپرد ہوئی۔ اس پر اپنی سی کوشش کی اور انہیں مرتب کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور بزرگوں کی ارواح مقدسہ کی خوشنودی کا باعث بنائے۔

آج کے مذہبی فرقوں کے جنگ و جدال میں یہ فتاویٰ ہمارے لئے روشنی کا مینار ہیں۔ ان کی ضو میں ہم صراطِ مستقیم پر بے خطر گامزن ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے فتاویٰ کے آئینہ میں ہم یہ متعین کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ان اختلافی مسائل میں کس طرح بنی برحقیقت موقف کے حامل تھے۔ ان کو تحریر فرمانے والی شخصیت تمام جہات سے ممتاز ہے۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کی اولاد پاک سے ہیں اور ان کے سلسلہ میں ایک جلیل القدر شیخ طریقت ہیں۔ علم و عرفان کے پاکیزہ ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی اور اسی مقدس ماحول میں وہ پروان چڑھے۔ برصغیر پاک و ہند کے جید علمائے اسلام اور حرمین شریفین کے اساطین علم و فضل کی تربیت سے وہ اپنے وقت کے جید علماء



کرام میں شمار ہوتے تھے۔ چند برس تک آپ نے مکہ مکرمہ کے مشہور عالم دارالعلوم مدرسہ صولتیہ میں تدریس فرمائی۔ ان کے جد امجد رئیس العلماء العارفین حضرت شاہ احمد سعید مجددی قدس سرہ مجددی فیوض و برکات کے امین تھے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کا حلقہء ذکر مسجد حرام میں منعقد ہوتا تھا۔ الغرض اس مجموعہ فتاویٰ کو جاری فرمانے والے مفتی علم و عرفان کے مجمع البحرین تھے۔ ان کا علمی و عرفانی مقام اہل علم کے نزدیک مسلم ہے۔ ان کے حالات پر ایک ضخیم کتاب مقامات خیر کے نام سے اردو اور مقامات اختیار کے نام سے فارسی میں مطبوع ہو چکی ہے۔ جو ان کے جانشین حضرت ابوالحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کا شاہکار ہے۔

ان فتاویٰ کی دریافت سے ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے جو پہلے اہل علم کی نظروں سے اوچھل تھا کہ آپ ایک جچے تلے قول فیصل کے حامل مفتی اسلام بھی تھے۔ یہ مقام بھی انہیں اپنے آبائے کرام کی وراثت میں ملا تھا کہ آپ کے جد امجد حضرت شاہ احمد سعید دہلوی کے فتاویٰ بھی قدیم کتابوں میں پائے جاتے ہیں کاش آپ کے مزید فتاویٰ بھی میسر آسکیں۔

ترتیب کے دوران درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا۔

۱۔ حوالہ جات کی تخریج حتی المقدور کر دی گئی ہے۔

۲۔ اصل عبارت کی بہت حد تک پابندی کی گئی ہے جہاں تبدیلی ناگزیر تھی وہاں اصل عبارت حاشیہ میں درج کر دی گئی ہے تاکہ آپ کے اصل الفاظ بھی محفوظ رہیں۔

۳۔ بعض مقامات پر الفاظ پڑھے نہ جاسکے وہاں اپنے اندازہ سے عبارت کو مربوط بنانے کی خاطر اضافہ کیا گیا لیکن اصل سے ممتاز کرنے کے لئے اضافہ کو قوسین میں لکھا گیا ہے۔

محمد عبد اللہ (رحمۃ اللہ علیہ)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

## تقدیم

سراج السالکین حضرت شاہ ابو الخیر عبداللہ محی الدین فاروقی مجددی علیہ  
الرحمہ اُس جلیل القدر ہستی کی اولاد امجاد سے ہیں جس کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ  
محدث دہلوی علیہ الرحمہ (م ۱۷۱۵ھ / ۱۷۶۲ء) نے فرمایا:-

لَا يُحِبُّهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا فَاجِرٌ شَقِيٌّ

(المجموعۃ السنیہ، دہلی ۱۹۸۳ء ص ۴۳)

اس سے محبت نہ کرے گا مگر پاک باز ایماندار اور اس سے بغض نہ رکھے گا مگر بدکار بد  
نصیب۔

جس کو ڈاکٹر اقبال (م، ۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ء) نے ”ملت کانگہبان“ قرار  
دیا، جس کی تربیت پاک کو ”مطلع انوار“ فرمایا اور جس کی تعلیمات کو مجاہدین اسلام کا  
سرمایہ قرار دیا۔۔۔۔۔ یعنی ناصر السنہ وقامع البدعہ، سیف اللہ المسلمول، امام العارفین  
شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز (م، ۱۰۳۴ھ  
/ ۱۶۲۴ء)

حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ ۲۷، ربیع الآخرہ ۱۲۷۲ھ بمطابق ۶،  
جنوری ۱۸۵۶ء کو دہلی میں پیدا ہوئے، والد ماجد کا اسم گرامی شاہ محمد عمر تھا علیہ الرحمہ  
(م ۱۲۹۸ھ / ۱۸۸۱ء) اور جد امجد کا اسم شریف شاہ احمد سعید علیہ الرحمہ (م،

۱۲۷۱ھ / ۱۸۶۰ء) ہے، آپ دو سال مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کو چار سال کی عمر میں تقریباً ۱۸۶۰ء میں بیعت فرما کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں خلافتِ خاصہ سے نوازا۔ آپ کو سلاسلِ قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، مداریہ، قلندریہ وغیرہ میں بھی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ خانقاہ مظہریہ دہلی جس میں آپ تشریف رکھتے تھے حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں علیہ الرحمہ (م، ۱۱۹۵ھ / ۱۷۸۰ء) سے منسوب تھی جو ۱۱۹۵ھ / ۱۸۷۸ء میں آپ کے وصال کے بعد قائم ہوئی اور یہیں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ اس خانقاہ شریف میں ۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۸ء میں تشریف لائے۔ آپ کے جد امجد نے ۱۲۷۵ھ / ۱۸۵۸ء میں حرم نبوی شریف میں جو فرمایا تھا:-

”میری خلافتِ خاصہ اس بچے کے نصیبے میں ہے“

(ابو الحسن زید فاروقی: مقاماتِ خیر، دہلی ۱۹۸۹ء، ص ۱۹۹)

۳۱ سال کے بعد اس کا ظہور ہوا اور خانقاہ شریف پھر گوارہٴ رشد و ہدایت

بنی۔۔۔۔ اس کے علاوہ ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء سے آپ کوئٹہ (بلوچستان۔ پاکستان)

تشریف لے جاتے تھے اور فیض کے دریا بہاتے تھے، ۱۳۲۸ھ / ۱۹۰۹ء میں مستقل

مکان خرید لیا جو اب مرکزِ رشد و ہدایت ہے۔ آپ کے پوتے ابو حفص عمر فاروقی

مجددی بن حضرت ابو سعید سالم فاروقی مجددی زینِ سجادہ ہیں۔۔۔ حضرت شاہ ابو

الخیر ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۲ء تک برابر اپریل میں کوئٹہ جاتے اور اکتوبر میں واپس آجاتے

۔۔۔۔ آپ کا حلقہ ارادت حجاز و شام، افغانستان و روس، بنگال و آسام، پاکستان اور

افریقہ وغیرہ میں پھیلا ہوا ہے۔

حضرت شاہ ابوالخیر علیہ الرحمہ دربار رسالت مآب ﷺ میں مقبول و محبوب تھے۔ (۱)

۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۹ء میں مدینہ منورہ میں آپ کے چچا شاہ محمد منظر علیہ الرحمہ (م ۱۳۰۱ھ / ۱۸۸۳ء) نے حضور انور ﷺ کے ارشاد کی تعمیل میں آپ کے کندھوں پر چادر ڈالی۔۔۔ آپ کے استاد شیخ احمد دحلان مکی علیہ الرحمہ (م ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱ء) کے صاحبزادے شیخ عبداللہ دحلان مکی علیہ الرحمہ حضور انور ﷺ کے فرمان عالی کی تعمیل میں دہلی آکر شاہ ابوالخیر علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے۔ (۲)

(۱) ۱۲۷۴ھ / ۱۸۵۷ء کو غاصب انگریزی فوجیں دہلی میں داخل ہوئیں، اور ایک قیامت برپا ہو گئی، حضرت شاہ ابوالخیر علیہ الرحمہ کے جد امجد شاہ احمد سعید علیہ الرحمہ (م ۱۲۷۷ھ / ۱۸۶۰ء) نے دہلی سے سنہ مذکور ہی میں ہجرت کی اور حجاز مقدس روانہ ہوئے، حضرت شاہ صاحب کا چھن تھا اور آپ قافلہ کے ساتھ تھے۔ ۱۲۷۴ھ / ۱۸۵۸ء میں حج ہوا، تین ماہ مکہ مکرمہ میں قیام رہا۔ یہ سعادت بھی حاصل کی۔ ۱۲۷۵ھ / ۱۸۵۸ء میں مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر! اس چھوٹی عمر میں حاضری بھی ہو گئی۔ جد امجد شاہ احمد سعید علیہ الرحمہ کا وصال ۱۸۶۰ء میں مدینہ منورہ میں ہوا۔۔۔ ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء میں حرمین شریفین میں تقریباً ۲۲ سال قیام کے بعد وطن عزیز روانہ ہوئے۔۔۔ ۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۸ء میں پھر حرمین شریفین حاضری ہوئی۔ مدینہ منورہ میں تین ماہ قیام رہا۔ ۱۳۰۵ھ / ۱۸۸۵ء میں حج کی سعادت حاصل کی اور ۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۸ء میں وطن عزیز واپس آئے۔ اللہ اکبر! چھن ہی سے اس دیار مقدس میں حاضری ہوتی رہی۔

(۲) مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم ﷺ نے خواب میں (غالباً ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء میں) آپ نے فرمایا:۔ ہمارا خادم ابوالخیر عبداللہ دہلی میں ہے تم اس سے جا کر بیعت ہو۔



